

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے بنی اسرائیل

اُذْکُرُوا نِعْمَتَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

یاد کرو میری نعمت وہ جو انعام کی میں نے تم پر

وَآتَنِی فَضْلُتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

اور بے شک میں فضیلت دی میں نے تمہیں تمام جہانوں پر

وَاتَّقُوا يَوْمًا

اور ڈرو اس دن سے

لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَأْ

نہ کام آئے گا کوئی نفس کے کچھ بھی

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

اور نہ کوئی بدلہ اس سے لیا جائے گا

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

اور نہ کوئی سفارش اس سے قبول کی جائے گی

وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ أَلِفِرْعَوْنَ  
اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  
وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں عذاب کی برقے

وَلَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ  
اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو

يُذَّهِّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ  
وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو

وَفِي ذِلِكُمْ بَلَاءٌ عَظِيمٌ  
اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ  
اور جب چھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو

وَأَغْرَقْنَا أَلَفِرْعَوْنَ  
اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو

فَانْجَيْنَاكُمْ  
پھر نجات دی ہم نے تمہیں

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ  
اور تم تم دیکھ رہے تھے

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى

اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

چالیس راتوں کا

ثُمَّ اتَّخَذُتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ

پھر بنالیا تم نے بچھڑے کو (معبد) بعد اس کے

وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ

او تم ظالم تھے

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

پھر درگز رکیا ہم نے تم سے تم کے بعد

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تاکہ تم شکر ادا کرو

وَرَدْ أَتَيْنَا مُوسَى  
اور جب موسی کو دی ہم نے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  
تمہاری ایجاد پا جاؤ تاکہ تم

الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ  
کتاب اور فرقان

وَإِذْ قَالَ مُوسَى  
اور جب موسی نے کہا

لِقَوْمِهِ  
اپنی قوم سے

يَقُومُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِإِتْخَادِكُمُ الْعِجْلَ  
اے میری قوم بے شک تم ظلم کیا تم نے اپنے نفسوں پر بوجہ بنانے کے تمہارے بچھڑے کو (معبدوں)

فَاقْتُلُوا آنفُسَكُمْ  
تو قتل کرو اپنے نفسوں کو

فَتُوبُوا إِلَى بَارِيِّكُمْ  
پس توہ کرو طرف اپنے پیدا کرنے والے کے

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيِّكُمْ  
یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے

فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
پھر وہ مہربان ہوا تم پر

إِنَّهُ هُوَ الرَّحِيمُ التَّوَابُ  
بے شک وہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا

وَإِذْ قُلْتُمْ

اور جب کہا تم نے

يَمْوُسِي لَكُنْ نُعْمَنَ لَكَ

اے موسیٰ ہم ایمان لا گئیں گے تجھ پر ہرگز نہیں

جَهَرَةً

رو برو/ سامنے

حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ

یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو

فَاخَذَتُكُمُ الصُّعَقَةُ

پھر کچھ لیا تمہیں بھلی کی کڑک نے

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

اور تم تم دیکھ رہے تھے

مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ

تمہاری موت کے بعد

ثُمَّ بَعْثَنَكُمْ

پھر اٹھایا ہم نے تمہیں

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تاکہ تم تم شکر ادا کرو

وَظَلَّلَنَا عَلَيْكُمُ الْغَيَّامَ

اور سایہ کیا ہم نے  
تم پر بادلوں کا

وَأَنْزَلَنَا عَلَيْكُمُ

اور اتارا ہم نے  
تم پر

وَالسَّلُوٰی

اور سلوی

الْبَشَرَ

من

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ

کھاؤ جو ان پا کیزہ چیزوں سے رزق دیا ہم نے تمہیں

وَلِكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ

او لیکن تھے وہ اپنے نفسوں ہی پر

وَمَا ظَلَمُونَا

اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر

يَظْلِمُونَ

وہ ظلم کرتے

وَإِذْ قُلْنَا

اور جب کہا ہم نے

فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

چاہو تم پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے

ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ

داخل ہو جاؤ اس لبستی میں

رَغْدًا

فراغت سے

وَقُولُوا حَطَّةٌ

اور کہو حطہ (بخش دے)

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے

نَفِرُ لَكُمْ خَطِيلُكُمْ

ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطائیں تمہاری

وَسَنَرِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو

**فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا**

تو بدل ڈالا جنہوں نے بات کو ظلم کیا

**غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ**

سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے

**فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا**

توا تارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا

**رِجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ**

عذاب آسمان سے

**بِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ**

بو جہا اس کے جو تھے وہ وہ نافرمانی کرتے

وَإِذْ أَسْتَسْقَى مُوسَى

اور جب پانی مانگا موئی نے

لِقَوْمِهِ

اپنی قوم کے لیے

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

تو کہا ہم نے اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو

فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَعَشْرَةَ عَيْنًا

تو پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

تحقیق جان لیا سب لوگوں نے گھاٹ اپنا

وَ اشْرَبُوا

اور پیو

كُلُّوا

کھاؤ

مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

رزق سے اللہ کے

وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر

وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسِي

اور جب کہا تم نے اے موئی

كُنْ نَصِيرٌ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ

ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے کھانے پر ایک ہی

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

پس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے

بُخْرُجْ

وہ نکالے

لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین

وَبَصَلِهَا

اور پیاز اپنے

مِنْ بَقْلِهَا

سبزی اپنی

وَعَدَسِهَا

اور مسور اپنے

وَقِثَاءِهَا

اور ککڑی اپنی

وَفُومِهَا

اور گندم اپنی

قال

کہا

أَتَسْتَبِّدُ لُونَ الَّذِي

اسے جو

کیا تم بدلتا چاہتے ہو

هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

کم تر ہے بدلتے اس کے جو وہ بہتر ہے

إِهْبِطُوا مِصْرًا

شہر میں

اتر جاؤ

فِإِنْ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ

تو بے شک تمہارے لیے ہے جو مانگا تم نے

الْذِلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ

اور محتاجی

ذلت

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ

ان پر

اور مار دی گئی

وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

ساتھ غصب کے اللہ کی طرف سے

اور وہ پڑے

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ

یہ بوجہ اس کے کہ وہ ساتھ آیات کے اللہ کی تھے وہ وہ کفر کرتے

وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو جن کے بغیر

ذلِكَ بِمَا عَصَوُا

یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی

وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ

اور تھے وہ وہ حد سے نکل جاتے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے

وَالَّذِينَ

اور وہ جو

وَالصَّابِرُونَ

اور صابری

وَالنَّصْرَى

اور نصرانی

هَادُوا

یہودی بن گئے

مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ

جو کوئی اللہ پر ایمان لایا

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور آخری دن یہ

وَعَمِلَ صَالِحًا

اور اس نے عمل کیا نیک

فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

تو ان کے لیے اجر ہے ان کا پاس ان کے رب کے

وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ

اورنہ وہ غمگین ہوں گے

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

اورنہ ان پر کوئی خوف ہوگا

وَإِذْ أَخْذُنَا مِيْثَاقَكُمْ

اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

اور اٹھایا ہم نے طور کو اپر تھا مارے

وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ

اور یاد کرو جو اس میں ہے

خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

پکڑو جو دیا ہم نے تھیں ساتھ قوت کے

لَعْلَكُمْ تَتَقَوَّنَ

تم نج جاؤ تاکہ تم

ثُمَّ تَوَلَّتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ

اس کے بعد پھر گئے تم پھر

فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

تم پر اللہ کا فضل پس اگر نہ ہوتا

وَرَحْمَتُهُ

اور رحمت اس کی

لَكُنْتُم مِّنَ الْخَسِيرِينَ

البتہ ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے

وَلَقَدْ

اور البتہ تحقیق

فِي السَّبْتِ

سبت (ہفتہ کے دن) میں

مِنْكُمْ

تم میں سے

اعْتَدَوَا

حد سے نکل گئے

الَّذِينَ

ان کو جو

عَلِمْتُمْ

جان لیا تم نے

فَقُلْنَا لَهُمْ

تو کہا ہم نے ان سے

كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ

ذیل و خوار بندر ہوجاؤ

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّهَا

تو بنادیا ہم نے اس (واقعہ) کو عبرت ان کے لیے جو

وَمَا خَلْفَهَا

اور جو پیچھے (بعد) ہوں گے ان کے

بَيْنَ يَدَيْهَا

سامنے تھے ان کے

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

متقی لوگوں کے لیے اور نصیحت

وَرَدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً

بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم ذبح کرو ایک گائے

فَأَلُوا هُزُوا أَتَتَّخِذُنَا

انہوں نے کہا کیا تم بناتے ہو ہمیں مذاق

قَالَ

اس نے کہا

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهَلِيِّينَ

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی میں ہو جاؤں کہ جاہلوں میں سے

**قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ**

انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے

**يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ**

وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسی ہو وہ

**قَالَ**

کہا

**إِنَّهُ يَقُولُ**

بے شک وہ وہ فرماتا ہے

**إِنَّهَا بَقَرَةٌ**

بے شک وہ گائے

**وَلَا بِكُرٌ**

اور نہ چھوٹی

**لَا فَارِضٌ**

نہ بوڑھی ہو

**عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ**

او سطع مرکی ہو درمیان اس کے

**فَافْعُلُوا مَا تُؤْمِرُونَ**

تو کرو جو تم حکم دیئے جاتے ہو

قَالُوا اْدْعُ لَنَا رَبَّكَ

انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے

يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهَا

وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسا ہو رنگ اس کا

قَالَ

کہا

إِنَّهُ يَقُولُ

بے شک وہ وہ فرماتا ہے

إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءٌ

بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی

لَوْنُهَا فَاقِعٌ

خوب گھرا ہو رنگ اس کا

تَسْرُّ عَنِ الظَّرِبِينَ

خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبّكَ

انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے

يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ

وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسی ہو وہ

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا

بے شک ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے گائے

وَإِنَّا

اور بے شک ہم

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اگر چاہا اللہ نے

لَهُتَّدُونَ

البته راہ پالینے والے ہیں

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

کہا وہ فرماتا ہے بے شک وہ

إِنَّهَا بَقَرَةٌ

بے شک وہ ایسی گائے ہو

وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ

اور نہ وہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو

لَا ذَلُولٌ تُشِيرُ إِلَارْضَ

نہ جوتی ہوئی ہو کہ وہ ہل چلاتی ہو زمین میں

مُسَلِّمَةٌ لَا شِبَهَ فِيهَا

صحیح سلامت ہو نہ ہو کوئی داغ اس میں

قَالُوا أَعْنَ جَعْتَ بِالْحَقِّ

انہوں نے کہا اب حق کو لایا ہے تو

فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور نہ وہ کرتے وہ قریب تھے کہ

فِيهَا

فَادْرُعْنُمْ

پھر ایک دوسرے پڑا لئے گتم اس (کے بارے) میں

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا

اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو

وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَنْكِتُونَ

اور اللہ نکانے والا تھا جو تم چھپاتے تھے تم

فَقُلْنَا

پس کہا ہم نے

ا ضِرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

مار دو اس کے بعض حصے کے ساتھ

كَذِلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ

اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردؤں کو

وَيُرِيكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تم عقل سے کام لو تاکہ تم

**نُّمْ قَسْتُ قُلُوبُكُمْ**

پھر سخت ہو گئے دل تمہارے

**مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ**

بعد اس کے

**أَشَدُّ قَسْوَةً**

زیادہ شدید سختی میں

**فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ**

تو وہ پتھروں کی طرح ہیں

**أَوْ**

یا

**وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ**

بعض پتھر اور بے شک

**لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ**

لبته وہ ہیں جو ان سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں

**وَإِنَّ مِنْهَا**

اور بے شک کچھ ان میں سے

**وَإِنَّ مِنْهَا**

اور بے شک کچھ ان میں سے

**لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْبَيْهِ اللَّهِ**

البته وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف سے اللہ کے

**لَمَّا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَاءُ**

البته وہ ہیں جو پھر نکل آتا ہے ان سے پانی

**وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ**

اور نہیں اللہ اس سے جو غافل تعمیل کرتے ہو

اللہ اس سے جو غافل تعمیل کرتے ہو

آفَتُطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ

کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

حالانکہ تحقیق ہے ایک گروہ (کے لوگ) ان میں سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الْكَلْمَةُ

وہ سنتے ہیں کلام اللہ کا

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں جو انہوں نے سمجھ لیا اسے

وَهُمْ يَعْلَمُونَ

جب کہ وہ وہ علم رکھتے ہیں

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا

اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے

قَالُوا أَمَنَّا

وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم

وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

اور جب بعض ہوتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے علیحدہ ہوتے ہیں

قَالُوا أَتُحِلُّ ثُوْنَاهُمْ

وہ کہتے ہیں کیا تم بتائیں بتاتے ہو انہیں

بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

جو کھول دی ہیں اللہ نے تم پر

لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ

تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے ساتھ اس کے پاس تمہارے رب کے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے

أَوَلَا يَعْلَمُونَ

وَهُوَ عَلِمٌ رَّحِيمٌ  
کیا بھلانہیں

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

بَشَكَ اللَّهُ جَانِتَاهُ

وَمَا يُعْلِنُونَ

او رجو وہ ظاہر کرتے ہیں

مَا يُسِرِّونَ

جو وہ چھپاتے ہیں

لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ

نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا

وَمِنْهُمْ أُمِيَّونَ

اور ان میں سے کچھ ان پڑھتے ہیں

إِلَّا أَمَانِيَّ

سوائے تمناؤں کے

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظْنَوْنَ

او نہیں وہ مگر وہ گمان کرتے